


فتویٰ برائے سندھ بینک سعادت اسلامک بینکنگ پراڈکٹس

الحمد للہ! سندھ بینک سعادت اسلامک بینکنگ کے نام سے گزشتہ تیرہ سال سے اسلامی بینکاری کر رہا ہے، اس کے معاملات کی مکمل شرعی نگرانی کے لئے بینک کی سطح پر شریعہ بورڈ موجود ہے۔ یہ بورڈ اسلامک بینکنگ کی تمام پراڈکٹس عقود اور معاملات کا شرعی طور سے جائزہ لیتا ہے اور اس کی حتمی منظوری کے بعد ان پراڈکٹس کو متعارف کرایا جاتا ہے۔

سندھ اسلامک بینکنگ ڈویژن نے شریعہ بورڈ کی منظوری سے مختلف ڈپازٹس پراڈکٹس کو متعارف کرایا ہے، اور ان پراڈکٹس میں تمام شرعی اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ سعادت مضاربہ اکاؤنٹ میں بینک کی حیثیت مضارب کی ہے اور ڈیپازٹر کی حیثیت رب المال کی، مضاربت پر حاصل ہونے والی رقوم کی بینک شرعی اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری کرتا ہے اور حاصل ہونے والے نفع کو طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ نقصان کی صورت میں رب المال اپنے سرمائے کے اعتبار سے نقصان برداشت کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔

نیز سندھ بینک سعادت اسلامی بینکنگ ڈویژن نے اپنی تمویلی خدمات (Financing Facilities) کے لیے مرابحہ (Murabaha) اجارہ (Ijara) شرکت متناقصہ (Diminishing Musharakah) سلم (Salam) اور استصناع (Istisna) وغیرہ کو متعارف کرایا ہے اور ان پراڈکٹس میں بھی تمام شرعی اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بحیثیت ممبران شریعہ بورڈ، ہم نے سندھ بینک سعادت اسلامک بینکنگ کی تمام پراڈکٹس کے کاغذات، معاہدات، حساب و کتاب کے طریقہ کار، عملی تطبیق اور دیگر امور کا بغور جائزہ لیا ہے، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ:

سندھ بینک اسلامک بینکنگ ڈویژن کی ڈپازٹ پراڈکٹس اور تمویلی سہولیات شریعت اسلامی اور فقہی اصولوں کے قوانین کے مطابق ہیں لہذا سعادت اسلامک بینکنگ کے کھاتوں میں رقم رکھنا، منافع حاصل کرنا اور تمویلی خدمات کا حصول حلال اور جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب



مولانا مظہر عباس زیدی

ممبر شریعہ بورڈ



مفتی حامد ضیاء الحبیب

ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر



مفتی ذیشان عبدالعزیز

چیئر مین شریعہ بورڈ